

(v) curb, kerb

(vi) faze, phase

(vii) maybe, may be

(viii) moat, mote

(b) Use any Five of the following in sentences which illustrate their meaning:

(i) Smash hit

(ii) Murphy's law

(iii) Plance in the Sun

(iv) Wooden spoon

(v) Go bananas

(vi) Beard the Lion in his den

(vii) Groan inwardly

(viii) Chicken out

Q7. Translate the following Urdu paragraph into English by keeping in view figurative / idiomatic expression.

عام لوگوں کا خیال ہے کہ ملک کے قانون اور فرد کی آزادی ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں۔ بظاہر یہ بات غلط معلوم نہیں ہوتی۔ ہر قانون شہریوں پر کوئی نہ کوئی پابندی عائد کرتا ہے۔ اگر ملک میں قوانین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ زیادہ پابندیوں سے فرد کی آزادی ان کے بوجھ تلے دب کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس قوانین کی تعداد کم ہو تو شہریوں کی آزادی کا دائرہ وسیع ہوتا ہے۔

Generally, people think law of the state and liberty of public are antithesis. Apparently, it does not seem wrong. Every law imposes certain restriction on citizens. If the number of laws is increased in the country, freedom of people will be under suppression. Contrary to it, if the number of laws is less, the freedom of people will be enhanced.